

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

یعنی قاعده مختصر زمان فارسی حکایات لطیف و حکایات
لزمان مع خلاصه تمام و کمال درین کتاب مندرج هست مرا احمد
شیرازی ترجمان احس اللخواراز اول تا آخر بخور تمام آن مطالعه کرد و پنهان
و فرمود البتہ این کتاب بهمه مفسد مخصوص برای طفیلان مکتب
و عبتدیان ثابت یقین مفید است بحسب کتاب دیگر عجمی هر آنکه درین مجموعه
مبالغات و مشاهدات بیان نیست در بلده پونه در مطبع باباجی
سکارام نقالی طبع و رآمد شده ۱۲۰۰ مکه هزار دو صد و هفتاد و سه
هجری نبوی صلح مطابق شده عیسوی یک هزار هشتاد و صد و شصت

مترجم نظم ام البنین

مصارع

مردو آن گرفت جان برادر که کار کرد : الشعیینی و الانعام سن اش
جبد کن جهدی ناما و ارسی : ذ در ز جهش ذر بانی الهمی
اعداد صفحه های کتاب هذا حکایات لطیف و حکایات لقان چشم غیبه
قاعده اول ۲۷ قاعده دوم ۳۴ مجمله ۳۸۳ دو و هشتاد و سه هم
عدد حکایاتها — حکایات لطیف ۳۴ — حکایات لقان ۱۹۳

شاعر
شیخ مرتضی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فعل لازم می مصدر

آئدن صرف فعل زمان حال واحد متكلم واحد مخاطب واحد غائب
آئی می آیم می آتی می آید جمع متكلم جمع مخاطب جمع غائب
ہیں اماہوں تو اماہی وہ اماہی

می آتم می آئی می آئیہ بر بھن دستور واحد و جمع در تمام
سم آتی ہیں تم آتی ہو وہی آتی ہیں
اعمال قیاس باشد کرد صرف قول باصنی استمراری
می آدم می آہی می آمد می آدمیم می آمدیدہ می آمدند
میں اماہتا تو اماہتا وہ اماہتا ہی آتھتے تم آتھتے وہی آتھتے
صرف باضی قریب آمدہ ام آمدہ آمدہ است آمدہ یعنی
میں ایا ہوں تو ایا ہی وہ ایا ہی ہم ایکے ہیں
آمدہ اید آمدہ انہ صرف باضی بعید آمدہ بودم آمدہ بود
یہم ایکے ہو وہ ایکے ہیں میں ایا ہتا تو ایا ہتا
آمدہ بود آمدہ بودیم آمدہ بودید آمدہ بودید صرف فعل باضی مطلقاً
دو تایا ہتا تم ایکے ہتے وہی ایکے ہتے

۲

آئم آسی آمہ آئیم آمدید آمدید سرف فعل زمان مقبل
زن آیا تو آیا وہ آیا ہم اے تم اے وے ات
خواہم آمد خواہی آمد خواہد آمد خواہیم آمد خواہند آمد
ہیں اوٹکا تو آویگا وہ آویگا ہم ایکے تم آویگے دے ایکے
مضارع بیا ہم بیا ہی بیا ہم بیا ہیہ بیا ہیہ
ہیں آون تو آوسے وہ آوے ہم آوین تم او دی آوین
صرف فعل ماضی مترکی آمدہ باشم آمدہ باشی آمدہ باشد
ہم اے ہونگے تم اے ہوگے دی اے ہوگے
می آمدہ باشم می آمدہ باشی می آمدہ باشد می آمدہ باشید
ہیں آتا ہونگا تو آتا ہوگا وہ آتا ہونگا ہم اے ہونگے تم اے ہوگے
می آمدہ باشد صرف فعل زمان متمتی می آمدی تو آمدی
وے اے ہونگے پن آتا تو آتا
اوآمدی آمدی شما آمدید یا آمدی الشان آمدید یا آمدی
وہ آتا ہم اے تم اے وے اے
ماضی معطوف علیہ آمدہ اکر فاعل آپنہ افی والا جمع فاعل آپنہ کا اے وہ
بدائکہ امر محض دو صیغہ ہست واحد مخاطب و جمع مخاطب باقی صیغہ ہما
چون صیغہ ہما می مضارع اند
کروان امر

بیکم بیا بیا پر سایم بیانیہ بیانیہ . ام بیا
درناؤن وا وہ اوے سداوین تم او وے او بن
آہنی یامست آ صدر دلیر مثالی دکپر فعل لازمی رعن جان فلن زن
حال می روم می روی می رود می رونیم می رفید می روند
می جاتا ہوں تو جاتا ہی وہ جاتا ہیں تم جاتا ہو وہ جاتی ہیں

صرف فعل زمان ماضی استرار می

می رتم می رفتی می رفت می رفته می رفته می رفته
میں جاتا تھا تو جاتا تھا وہ جاتا تھا ہم جاتے تھے تم جاتے تھے دت جاتے تھے

صرف فعل زمان ماضی مُطلقاً

تمگم رفتی رفت رفته رفته رفته رفته
میں گیا تو گیا وہ گیا ہم گئے تم گئے دیے کیے

صرف فعل زمان ماضی قریب

رفتہ ام رفتہ رفتہ است رفتہ ایم رفتہ اید رفتہ اند
میں کپ ہوں تو گیا ہی وہ گیا ہی ہم گئے ہیں تم گئے ہو دے گئے

صرف فعل زمان ماضی بعيد

رفتہ بودم رفتہ بودی رفتہ بودیم رفتہ بودید رفتہ بود
میں گیا تھا تو گیا تھا وہ گیا تھا ہم گئے تھے تم گئے تھے دے گئے

مسقیل خواہم رفت خواہی رفت خواہد رفت خواہم رفت خواہد رفت

میں جائیگا تو جاویگا وہ جاویگا ہم جاویگے ہم جاوے گے

خواہ بفت صرف فعل زمان ماضی بود و
دشنه از دینگی میں خاون نو جادے وہ جادے
بردم بروید بروید ماضی مشکتی رفته باشم رفته باشی
بهم جادیں مر جاد مری خاون میں گیا ہو گا تو گی ہو گا
رفته رفته باشد رفته باشیم رفته باشید رفته باشند صرف
و گیا ہو گا ہم گئے ہو گئے ہم گئے ہو گئے دستے گئے ہو گئے
فعل زمان ماضی مشکتی استواری می رفته باشی می رفته باشی
میں خاون ہو گا نو جانہ ہو گا وہ جانہ ہو گا
میر فتح بشیم می رفته باشید می رفته باشند صرف زمان ماضی همیں
بهم جانا ہونگے تم جائید ہو گے دستے جانے ہو گے دی پسر حلیہ
اکر من فتحی اکر تو رفتی اکر ما فتنی اکر شمار فتحی
اگر میں جاتا اگر تو جاتا اگر ہم جاتے اگر تم جاتے
اکر ایشان رفتندی بد انکہ اکثر حرف شرط در صرف زدن سختمان باشد
اگر دستے جاتے ماضی معطوف علیہ
رفته فاعل رومندہ جمع رومند کان حالیہ امر ہی
جا کر جانے والا جانے والہ
روان بود مر گردان امر بردم بود بروید بردم
جا آتا ہوا جا ست جا ماضی متعبدی مصبه دادن دینا صرف فعل زمان حال
بردم بروید دستے جاریں

می دهیم می دهی می دهیم می دهیم می دهی
می دهیم می دهی می دهیم می دهیم می دهیم
می دهیم می دهیم می دهیم می دهیم می دهیم
می دهیم می دهیم می دهیم می دهیم می دهیم

می دهیم می دهیم می دهیم می دهیم می دهیم
می دهیم می دهیم می دهیم می دهیم می دهیم

دادم دادی داد دادیم دادید دادید
من شد را در سر با اسنی دیا ہم نہ دیا تم نہ ریا انہوں نے دیا
صرف فعل نامن ماضی فریب دادہ ام دادہ دادہ است
تک نے دیا ہی تو نہ دیا اسنی دیا

دادہ ایم دادہ اید دادہ اید
ہم نے دیا ہی تم نے ریا انہوں نے دیا

دادہ بودم دادہ بودی دادہ بود دادہ بودیم دادہ بودید دادہ بود
می شد ریا ہنا تو نے دیا ہنا اسنی دیا ہنا تم نے دیا ہنا انہوں نے دیا
بُت فعل نامن سبقیں خواہم داد خواہی داد خواہد داد
میں دوں کا خود بیگا دوہ دیگا

خواہم داد خواہد داد خواہند داد
ہم دیگے تم دیگے مسے دیگنگے

چدم چھی چھ چھم چھم می دهیم می دهیم
می دهیم

میں دون تو دیوں اسے دو دیوں کے باوجودہ ہم دیں تم در دستے رہی
 صرف فعل نہ ان پختگی دادہ باشم دادہ باشی دادہ باشد
 میں شدہ باہوگا تو شدہ دیا بھوگا اُسی دیا بھوگا
 دادہ باشم دادہ باشید دادہ باشد صرف فعل نہ ان پختگی پشتگی استہجے
 پختگے دیا بھوگا لختے دیا بھوگا اُنہوں نے دیا بھوگا
 میدادہ باشم میدادہ باشی میدادہ باشد میدادہ باشید میدادہ باشید
 میں دیتا ہوں گا تو دیتا ہوگا دو دیتا ہوگا ہم دیتے ہوں گے تم ریتے ہوئے
 میدادہ باشد صرف فعل نہ ان ستمی اگر من دادھی اگر تو دادھی
 دسے دبئے ہوں گے اگر من دیتا اگر تو دیتا
 اگر او دادھی اگر ما دادھم یا دادھی اگر شکا دادید یا دادھی
 اگر دیتا اگر ہم دیتے اگر تم دیتے
 اگر ایشان میدادہ یا دادھی امر نہی بڑھ مدد
 اگر دسے دیتے اگر دسے دیتے
 گردان امر بڑھ کر نہیں دیتے بڑھ کر بھیم بھیم بھیم بھیم
 جن درکن نہیں دیتے بڑھ کر بھیم بھیم بھیم بھیم
 انسی معطوف علیہ دادہ مفعول دادہ شدہ فاعل دھندہ
 دیکھ دیکھ دیکھ دیکھ
 جمع دھندکان حالیہ دیاں شال دیکھ فعل مقدمی مصدر
 دینے والے دیتا ہوا کر دن کرنا صرف فعل نہ حال

میکنیم میکنی میکنند میکنیم میکنیم میکنند صرف فعل
بیس کرد بود تذکرته ده کرده هم کرد بین تم کرته بود دست کرد بین
زمان پسی استعاری میکردم میکردی میکرد میکردیم میکردید
میکردند بد انکه در زمان ماضی استعاری معنی ماضی متنی هم فریب نهاد
دست کردته هشود صرف فعل زمان ماضی سلطنت
مکردم کردی کرد کردیم کردید کردند
پسنه کی تونه کیا اسنه کیا هم نه کیا تم نه کیا انون نه کیا
صرف فعل زمان ماضی فریب کرد ام کرده است
میکرد کیا تونه کیا اسنه کیا هم نه کیا اسنه کیا هم
کرده ایم کرده آید کرده اند صرف فعل زمان ماضی یعنی
هم نه کیا تم نه کیا اسنه کیا هم نه کیا هم
کرده بودم کرده بود کرده بودیم کرده بودید کرده بود
میکشد کیا نه تونه کیا نه اسنه کیا نه هم نه کیا نه تم نه کیا نه
صرف فعل زمان مستقبل خواهیم کرد خوابید کرد خواهیم کرد
میکردنگار خواهیم کرد خواهیم کرد خواهیم کرد
خواهید کرد خواهند کرد صرف زمان ضمایع کنیم کنی کند
تم کرد گردد میکرد کردنگه میکردن خواهید کرد
گنیم گنیم کنیم کنیم صرف فعل زمان ماضی هستشی کرد باشیم
هم کردن خواهد کرد دست کردن

کر دہ باشی کر دہ باشد کر دہ باشیم کر دہ باشید کر دہ باشند
تو نہ کیا ہو گا اس سخ کیا ہو گا ہم کیا ہو گا تم نہ کیا ہو گا انہوں نے کیا ہو گا
صرف فعل مان ماضی غشکی اسمداری میکر دہ باشیم میکر دہ باشی
میں کرنا ہونگا تو کرنا ہو نگا

میکر دہ باشہ میکر دہ باشیم میکر دہ باشید میکر دہ باشند
وہ کرنا ہو گا ہم کرتے ہونگے تم کرتے ہو گے وسے کرتے ہو گے
صرف فعل ماضی ستمتی باشرطیہ من کردی خو کردی او کردی
میں کرنا تو کرنا وہ کرنا

ما کردی سما کرد پا کردی اپیان کردندی امر نہیں بکن کمن
ہم کرتے تم کرتے وسے کرتے کر مند کر
گرداں امر بکنیم بکن بکنند بکنیم بکنید بکنند
میں کردن تو کر دہ کرے ہم کریں تم کرد وسے کریں

ماضی معطوف علیہ فاعل جمع مفعول حالہ
کر دہ کنندہ کنندہ کان کر دہ شدہ کن
کر کے کرنے والا کرنے والے کیا ہوا کرنا ہوا
گرداں فعل خواستن کہ در زبان عجمی مشور تراست و فعل مستقبل زمان ضرف
پیشود صدر خواستن چاہنا صرف فعل مان زمان حال
بیخواہم بیخواہی بیخواہ بیخواہیم بیخواہید بیخواہند
میں چاہوں تو چاہتائی وہ چاہتائی ہم چاہتے ہیں تم چاہتے ہو وسے چاہتے ہیں

صرف فعل مان ااضی سطع خواستم خواستی خواست خواستم
بہنے چاہا تو نہ چاہا اسی چاہا ہم نہ چاہا
خواستید خواستہ صرف فعل مان ااضی ستماری
تم نہ چاہا اسونے چاہا
مجواستم مجواستی مجواستیم مجواستید مجواستہ
میں چاہتا تھا تو چاہتا تھا وہ چاہتا تھا ہم چاہتے تھے وہ چاہتے
صرف فعل مان ااضی فریب خواستہ ام خواستہ خواستہ است
میرے چاہا ہی تو نہ چاہک اسٹر چاہا ہی
خواستہ یم خواستہ اید خواستہ انہ صرف فعل مان ااضی بعید
بہنے چاہا ہی تم نہ چاہا ہی انہوں چاہا ہی
خواستہ بودم خواستہ بودی خواستہ بود خواستہ بودیم خواستہ بود
میں چاہتا تھا تو نہ چاہتا تھا اسٹر چاہتا تھا ہم نہ چاہتا تھا
خواستہ بودم صرف فعل مان مستقبل خواجہ خواست خواہی خواست
نہ ہوئی چاہتا تھا میں چاہوں گا تو چاہیگا
خواہ خواست خواہیم خواست خواہی خواست خواہی خواست
وہ چاہیگا ہم چاہنے گے ہم چاہو گے وہ چاہنے گے
صرف فعل مان ضمایع سخواہم سخواہی سخواہ سخواہی سخواہی
میں کوئی چاہو تو نہ گئے اور وہ اگلے رات ہم الگین چاہی
سخواہی سخواہی کوئی چاہو سخواہ وہ اگلے رات ہم الگین چاہی
کے

کہ در قفل میضارع صرف سرد اگر زان نوست و موادہ دیگر صور میاسد صرف
 فعل زمان ماضی مشتملی خواستہ باشم خواستہ باشی
 جتنے انگوہا بوجا یا پھر بوجا تو نہ انگوہا بوجا یا بوجا
 خواستہ باشد خواستہ باشم خواستہ باشید خواستہ باشند
 اسٹن انگوہا بوجا باچا با جو کہ تئم دیکھا بوجا مایو گا انہوں کو انگوہا بوجا
 صرف فعل زمان ماضی مشتملی است مرادی میخواستہ باشم میخواستہ باشی
 میخواستہ باشد میخواستہ باشیم میخواستہ باشید میخواستہ باشی
 وہ انگوہا بوجا با جا سما ہو گئے ہوئے ہم جائیے تم اگر سوچ دیا جائے ہو گئے دی جائیکے ہوئے یا جائیے
 صرف فعل زمان ماضی مشتملی است طبیہ من خواستی تو خواستی
 میں چاہتا تو چاہتا
 او خواستی ما خواستی شما خواستید با خواستی اپیشان خواستنے
 وہ جاہتا ہم جاہتے تم چاہتے وسے چاہتے
 ماضی معطوف علیہ فاعل مفعول جمع فاعل
 خواستہ خواہنده خواستہ کان خواہنده کان حالیہ خواہان
 مانگتے کر مانگ دالا انگوہا مانگ دالے مانگوہا جوا
 گرداں فعل محبول از معاونت شدن و بودن تو ان گردیاں اپنیں ان سہم باشد چاہجے
 کشته شدن مردہ شدن بیمار بودن قتل شدن وغیرہ
 مارا جانا مر جانا پھر بوجانا قتل ہونا

کر داں فعل محبول کشته شدن ۱۱ صرف زمان حال
کشته میپو م کشته میپوی کشته میپو ز کشته میپویم کشته میپویہ
میں مارا جانا ہو تو مارا جانا ہی وہ مارا جانا ہب ہم مارا جانا ہیں تم مارا جانا ہو
کشته میپوہ کر داں فعل مان ماضی اسمراری در فعل محبول نربان عجمی
و سے مارے جائے ہیں مروج نیت

کشته میپدم کشته میپدی کشته میپدیم کشته میپدیہ
میں مارا جانا تھا تم مارا جانا بھا وہ مارا جانا تھا ہم مارے جاتے تے تم مارا جاتے تے
کشته میپدیہ کر داں فعل زمان ماضی سلطان کشته شدم کشته شدی
و سے مارے جائے ہیں مارا گیا تو مارا گیا

کشته شد کشته شدیم کشته شدیہ کشته شدہ نہ کر داں فعل زمان ماضی
و سے مارا گیا ہم مارے گئے تم مارے کہی ورنہ مارے کئے فریب
کشته شدہ ام کشته شدہ کشته شدہ است کشته شدہ ایم کشته شدہ یہ
میں مارا گیا ہوں تو مارا گیا وہ مارا گیا ہب سچھ مارے گئے ہو تم مارے گئے ہو
کشته شدہ اند گر داں فعل مان ماضی اریہ کشته شدہ بودم
و سے مارے گئے ہیں مارا گیا تھا

کشته شدہ بود کشته شدہ بود کشته شدہ بودیم کشته شدہ بودیہ
تو مارا گیا تھا وہ مارا گیا تھا ہم مارے کئے تے تم مارے گئے بنتے
کشته شدہ بودہ کر داں ماضی مشکل کشته شدہ باشم کشته شدہ باشی
و سے مارے گئے تے میں مارا گیا ہو نگا تو مارا گیا ہو کا
کش

کشته شده باشد کشته شده باشیم کشته شده باشید کشته شده
 وہ مارا گا ہو گا ہم مارے گئے ہونگے تم مارے گئے ہو گئے ہو گئے
 پدان کو تصریف مستثنی استراری در زمان عجمی شہر بورنیز کے اکثر در حروف دن و نویشن
 نبی ایہ مگر ماضی مستثنی صرف فعل ماضی مستثنی من کشته شدم تو کشته شدم
 میں مارا جاتا تو مارا جاتا

اوکشته شدی یا مشتمل کشته شدی شاکشہ شدید یا شدی ایشان کشته شدید
 وہ مارا جاتا ہم مارے جائے تم مارے جائے تو مارے جائے
 صرف فعل زمان مستقبل کشته خواہش کشته خواہش کشته خواہش
 میں مارا جاؤں گا تو مارا جاؤں گا وہ مارا جاؤں گا

کشته خواہیش کشته خواہیش کشته خواہش دبا حرف شہزادہ ہم
 ہم مارے جاؤں گے تم مارے جاؤں گے تو مارے جاؤں گے
 نوشت و حرف زدن صرف فعل زمان مضارع کشته شوم کشته شوم
 میں مارا جاؤں تو مارا جائے

کشته شود کشته شویم کشته شوی کشته شوند پدان کو در معنی ماضی
 وہ مارا جاؤں ہم مارے جاؤں تم مارے جاؤں تو مارے جاؤں
 مستثنی و ماضی استراری یک نایپ ماضی محفوظ علیہ کشته شد
 مارا گیو

فاعل مفعول کشند جمع کشندگان مفعول کشندہ حالیہ
 کاہنے والا، مرنیوالے مارا گیو

کش ن بدان که صرف متعددی بالغیر از رسیدن رسائیدن ترکیب تو انگرد مگر در زمان عجیب
درست نہ ہوا

ہر کس فعل بین تصریف نہ تو انگرد کو کاشت فعل متعددی بالغیر ولازی ہم اند چنانچہ آموختن خود
سیکھنا سیکھنا

مصدر رسائیدن صرف فعل زمان حال می رسانم می رسانی می رشت
میں چنچا تھوں تو چنچا ہوں پہنچا

می رسانیم می رسائید می رسانند ماضی همارے
ہم چنچاتے ہیں تم چنچا ہو وے چنچاتے ہیں

می رسائیدم می رسائیدی می رسائیدہ می رسائیدم می رسائیدید
میں چنچاتا تھا تو چنچاتا تھا وہ چنچاتا تھا ہم چنچاتے تھے تم چنچاتے تھے
می رسائیدم می رسائیدید می رسائیدند صرف فعل زمان ماضی مطلق
ہم چنچاتے تھے تم چنچاتے تھے وے چنچاتے تھے

رسائیدم رسائیدی رسائید رسائیدم رسائیدید رسائیدند
میں چنچایا تو نے چنچایا اسے چنچایا ہم چنچایا تم چنچایا انہوں نے چنچایا
صرف فعل زمان ماضی قریب رسائیدہ ام رسائیدہ ام رسائیدہ ہفت
میں چنچایا ہو تو نے چنچایا ہو اسے چنچایا ہی
صلانیہ ایم چنچایا رسائیدہ ایم صرف فعل زمان ماضی بعدیہ
یہ نے چنچایا ہو چنچے چنچایا

رسائیدہ بودم میں نے چنچایا تھا رسائیدہ بودی تو نے چنچایا تھا رسائیدہ بود ہم نے چنچایا
رسائیدہ بودم

رسانیدہ بودیم رسانیدہ بودیم رسانیدہ بوند صرف ستعقل خواہم رسانید
 ہم نے پہنچایا تھا تم نے پہنچایا تھا انہوں نے پہنچایا تھا
 میں پہنچا دیکھا
 خواہی رسانید خواہد رسانید خواہیم رسانید خواہید رسانید خواہند رسانید
 تو پہنچا دیکھا وہ پہنچا دیکھے ہم پہنچا دیکھے تم پہنچا دیکھے وہ پہنچا دیکھے
 مضارع بسامم پسانی پساند بسانیم پسانید پستان
 میں پہنچاؤں تو پہنچاؤ وہ پہنچاؤ کام پہنچاؤں تم پہنچاؤ وہ پہنچاؤ ماضی منتظری
 ماضی منتظری رسانیدہ باشم رسانیدہ باشی رسانیدہ باشی
 میں پہنچایا ہو گا تو پہنچایا ہو گا اس نے پہنچایا ہو گا
 رسانیدہ باشیم رسانیدہ باشی رسانیدہ باشی رسانیدہ باشی رسانیدہ باشی
 ہم نے پہنچایا ہو گا تم نے پہنچایا ہو گا انہوں نے پہنچایا ہو گا
 می رسانیدہ باشم می رسانیدہ باشی می رسانیدہ باشد می رسانیدہ باشم
 می پہنچا ہو گا تو پہنچا تا ہو گا وہ پہنچا تا ہو گا ہم پہنچا ہو گے
 می رسانیدہ باشی می رسانیدہ باشد صرف ماضی متمم میں رسانیدی
 تم پہنچاتے ہو گے وہ پہنچاتے ہو گے
 تو رسانیدی او رسانیدی د رسانیدے شمار رسانیدہ پیار سانے
 تو پہنچاتا وہ پہنچاتا ہم پہنچاتے تم پہنچاتے
 ایشان رسانیدہ نہی امر پستان نبی میان گردان امر
 وہ پہنچاتے پہنچا پت پہنچی
 بسامم میں پہنچاؤں بسان تو پہنچا پساند وہ پہنچاوے بسانیم ہم پہنچوں

چنانیہ پسند ہاضم مخطوط ہیہ بساپہ فاعل صفتہ صفتہ
تم پیچا دے پہنچو دیں پہنچا کر پہنچانے والا

جمع ساندگان مفعول چنانیہ شدہ حالیہ سان
پہنچانے والے پہنچا گیا پہنچتا ہوا

پاں کہ صفتے و مفعول پہنچیر معنی پکشاند چنان کہ من خود خواہم سانیہ
میں آپ پہنچا کا

لو خود خواہد رسانید از دست خود رساند یا معرفت دیکرے و مساند
وہ آپ پہنچا و بیکھا

تو انتن فعل مکانی ہست این فصل ممکن محتاج معاونت معاون فعال دیکر تو زند بود صرف زمان حال
می تو انہم زخم تو انی می تو اند می تو انسیم می تو انسید می تو انسد
می کر سکتا ہوں تو سکتا ہی وہ سکتا ہیں ہم سکتے ہوئے سکتے ہیں

ہمی ستراری می تو اشتہم می تو اشتی تو اشت می تو اشتیم می تو اشتید
می سکتا تھا تو سکتا تھا وہ سکتا تھا ہم سکتے تھے تم سکتے تھے

می تو اشتید زبانہ ازین تصریف این فعل تو انی کرد الاز معاونت فعل دیکر چلت نچہ
فے سکتے تھے می تو انی کرد

می تو انہم کرد می تو انی کرد می تو انہذ کرد می تو انیم کرد
می کر سکتا ہوں تو کر سکتا ہی وہ کر سکتے ہیں تم کر سکتے ہو
می تو اشند کرد پایہ دانت کر این فعل و حرف

و دستے کر سکتے ہیں

مذکور کتابت اول ہر فعل با مدنوشت و محرف زوجانکہ ہیوا نہ رفت تو ان
 کفت تو ان سُمُر د بد انکہ بودن و سُدُن و هستن ہر سه افعال معادن است
 کہ از معادن است آن کردان ہر فعل تو ان کرد ام آئی است ایم
 آپہ آندہ ہم فعل معادن است مثل افعال معادن هستن فعل با فعس رایی نہ
 هستن هستی هست هستیم هستید هستند فعل
 میں ہوں تو یہی وجہ ہم میں تم ہو دے میں معادن
 بودن ہونا تمام گردان تو ان کردان لا با فعل دیکر بودم میں تھا
 بودی بود بودیم بودید بودند مضارع سُدُن ہم فعل معادن است
 تو تھا وہ تھا ہم تھے تم تھے دے تھے لیکن تمام گردان تو ان کرد
 شوم شومی شود شویم شوید شوند امرنا کیدی از
 میں ہوں تو ہو دے وہ ہوئے ہم ہو دین تم ہو دی ہو دی
 معادن باید شاید تو ان نوشت چاپکہ باید نوشت شاید رفت بایکفت
 این رازہ اپا کسی بکوی این ہم امرنا کیدیست بد انکہ کردان افعال لازمی و متعدد
 و حیرہ در زبان فارسی وہندہ میں لشما نموده شد برہمین طور پر صرف تو افی کو
 ضمائر خاعل مفرد من تو او ما مگا ایشان پا آتا
 میں تو وہ ہم تم دے کردان صلای
 منم تو فی اوست ما ایم شاید ایشاند مفعول مفرد
 میں ہوں تو یہی وجہ ہم میں تم ہو دے میں جمع مفعول
 مردا توڑا اور اوسرا ٹارا شیمارا ایش زا
 بچے بچے اسے یا اسکو ہم کو تم کو اون کو

زکیب سینہ مشترک خان پنځه

خود من خود تو خود او خود ما خود شما خود ایشان خود من خود من
 آپ میں آپ تو آپ وہ آپ ہم آپ تر آپ دی آپ میں آپ گیا
 تو خود رفت او خود رفت ما خود رفیتم شما خود رفیت ایشان خود رفت
 تو آپ گیا وہ آپ گیا ہم آپ گئے تو آپ گئے وے آپ گئے
 مخصوص خود را چھاپنے او خود را کشت ایشان خود را در کردا ب بلا اجنبید وغیره
 بد انکه در زبان عجمی تذکیر و مانیث میست الاز و ماده فعل و ضمایر برای هر دو
 جمل میشود چھاپنے در زبان دیکر میست در زبان عجمی میست کفر جمع و مفرد
 کردان فعل برای مذکرو میست در هندی سندی میشود در عجمی نکیا نست
 برای نمونه پا تمثیل من کویم تو میکونی او میکوید ما میکویم
 میں کہتا ہوں تو کہتا ہی وہ کہتا ہی ہم کہتے ہیں
 میں کہتی ہوں تو کہتی ہی وہ کہتی ہی ہم کہتی ہیں
 شما میکوید ایشان میکویند چھاپنے آن زن رفت ما آن مرد رفت
 شکتے ہو وے کہتی ہیں دو هوست گئے دو مرد گیا
 تو کہتی ہو وے کہتی ہیں آن مرد آمد ما آن زن مرد آمد وہ مرد آیا وہ هوست
 حالا پیشتر جایا کہ حالت انتہافت را بتو ٹینا یہم مالی ہیں مالی تو مالی او
 مال صاف صاف الیہ

مال مال شما مال ایشان بد انکه این ترکیب در قاعدہ مضافاتی الیہ
 همسال شماره ایں انکا مال وغیرہ میکویند و اکثر ماضی معروف ہم طور پخت
 اضافت

انسانیت میزان نہیں انسانیت آن آنی تو آنی تھا وغیرہ حالات انسانیت نہیں
 جانی خوب مل بکریان سخنان شیرین عبارت مجھی اضافت نو ایں
 اچھی بحکمہ جتنے سال میں دعیہ حوالہ و خوف نو ایں رہو
 اسم صفت اسم قصیل اسکم مبالغہ خوب خوبتر خوبترین پہ
 اچھا بہت اچھا اچھے سے اچھا بڑا
 بدتر بدترین استعمال اسم مفعول خاعل کہا ہے یا کہ یاد کہا ہے کہ کہا ہے
 بہت را بڑھے بڑا کون کس کو
 کہا ہے کس آمد یا کہ آمد کہا ہے بھرپا کرا بھر کم اوچھے کفت چھپت
 کون آیا کس کو دون اس نے کیا کہ کیا ہی
 کہ کیت این چھڑاست اوکیت بیج بیج بیت
 کون کون ہی یہ کیا پڑھی وہ کون جس کیہہ کیہہ نہیں
 اسم بھرم فاعل جمع فاعل مفعول جمع فاعل
 کس کسان کسی را کسان رافرستادم چند کس
 کوئی لوک کسی کو لو کون کو بھجا ہی کئی ایک آدمی
 ہر کس چند کسان کشتم کسی را کو ہر کس درستید غلط کس اور
 ہر کیت میٹھے کئی ایک آدمی اور دلھ کسی کوت بول ہر ایک آیا غذا آیا اور گیا
 اوچھا آمد اوچھوتفت چرانز فتی بعد قریب اسوار اشارہ
 وہ کس داشت دیکھا گیا تو کس داشت کیا
 آن او این اور ایکش اسکو مار دل این را بہر انکس مرد
 اسکو بجاو وہ آدمی تھیا

اسم خاص میر قادر علی میرزا باقر سید حضرت اسحام
 درخت در بیان نکن و غیره اسم عدد یک دو سه چهار پنج
 شش هفت هشت ۹ ده یازده دوازده سیزده
 چهارده پانزده شانزده هفده هیجده نوزده بیست
 بیست و یک بیست و دو بیست و سه بیست و چهار بیست و پنج
 بیست و شش بیست و هفت بیست هشت بیست و نه سی
 سی و یک سی و دو سی و سه سی و چهار سی و پنج سی و شش
 سی و هفت سی و هشت سی و نه چهل چهل و چهار چهل و دو
 چهل هشت پنجاه پنجاه و دو پنجاه و سه پنجاه و نه شصت و یک
 شصت و شش شصت و نه هفتاد هفتاد و نه هفتاد و چهار
 هفتاد و هفت هشتاد هشتاد و چهار هشتاد و هشت هشتاد و دو
 نو دو یک نو دو دو نو دو سه نو دو چهار یکصد و دو صد
 چهار صد هفتمد یک هزار دو هزار سه هزار هشت هزار
 بیهیں و استور تو اپنی شمرد ترکیب اسحام عالم کی شخصی مردمی
 و زندگی زندگی را کفته ام در زندگی را کفر کفته ام زندگی را اور دو ایام
 ایک چور ایک عورت میں ایک شخص کوایک میں ایک چور پکڑا ہی میں ایک عورت کے لامبا
 ترکیب چند اسما جمع و مفرد را را ۴ چاہ چاہا مکان مکان
 سه رستے کوئا کوئے مکان بنت کوئا
 مرد فاعل مردان جمع فاعل زن فاعل زنان جمع فاعل

ایک مرد بہت مرد ایکتھے تو ۳۰ موردن سفول خود جمع عقول جمع خوا
مردا مردانہ زن خود زنانہ را مردانہ آئندہ زنانہ نہ
مرد کو مرد نہ کو عورت موردن کو مرد آئے موردن گئیں
برچند کر دین مختصر کام قادہ بتوانہ موردم اما این تقدیر ایک دشیرین رائی مہ
بندی صفتی دکانی است کہ جابر مجرور و غیرہ قادہ در دامست موقوف بجنس
زبان عربی باید داشت برا بی طفلاں کتب دلخیلہ بان صدور صفت از جراحت
مردان این لذت باعثت آپ و جو اسی خالق کمد بطبع شوجه و شایق طبع دسر
و جو بان قادہ قانون آن بستہ چرا که افسر کی خاطر ایشان را بیکذا کرد کو
با سخاں مشغول بکمال ستر بستہ انقدر کہ درین قادہ بیان شد اکرایور اندیش
صفحت است بد انکه علامت صدر در فارسی دن دن است و در بندی
چیزی کردن کرنا بدن لیجانا بستن بند ناکشادن کہولنا بد انکه می وہی
حرفیت کہ وزرمان حال اس مرداری اول ہر فعل عنوانیست و ازان معنی زبان
ہر د معلوم مشود رجاعی کر مونس و ہمی ہمی باقیتی زوچارہ و مہمی ہمی
از اتش دل سوچتی ستر ناپا در دیدہ اکرنی نہی باقیتی حالا پیشہ بایک کے سحاب
بسیار جو میا یم کہ تصریح ہر صدر بدستور بسایق کہ بیان کر دم تو ای کو
تا ذسبیاری کیا د کر دن صادر فایدہ بسیار ہ حاصل شود باید کہ ہر ادعا د
شکر د خود را بین ترکیب بیا موز د کہ خواندن زبان بھی براو آسان شود و
قبل ازین کہ اہل بند کر داں خپڑا احال در کتاب خود بایکہ بونشندہ اقصیا
 تمام زمان بیان نکر دند یعنی ہر فعل بیشتر صفتی باترکیب ای ہر زمانہ تر قیمہ نظر نہ د

آهن رفتن حوزون نوشیدن کفن شنیدن داردن
 آه جانها نکننا پنهان کننا سُتا ریخا
 گرفتن پوشیدن حروشیدن خراسیدن جنبیدن جلبیدن
 لپایگزنا پنهان سورکرنا چلینا بلنا هلانا
 لرزیدن ترسیدن تتساییدن خندیدن کرسین دویدن
 کانپنا ذرا نا درانا هننا مرنا دورنا
 ایستادن کاشتن کاشن بسیارشدن خوابیدن مردن
 گزیده رهنا بونا گتنا جانی سونا مرنا
 زنده شدن افزودن افزاشن پرمدن افرودن زدودن
 زنده جوانا کراکرنا کلانا زیاده کرنا چلینا
 مون آزمودن نمادن طلبیدن پرسیدن شمیدن داشتن
 هارنا آزدا رکنا بلانا پوچنا سوکنها کننا
 ایماشتن رامدن قتل کردن افسودن براسیدن کمیدن
 بهرنا هانکنا قتل کرنا کننا درانا درنا چونها
 نامدن سوختن ساختن آردستن اموختن اندختن
 زنها جلانا بنانا بنانا سیکنها سکنها جمع کرنا
 فراموشیدن یاد کردن غفت و زریدن اختیار کردن کذاشتن
 بیون یاد کرنا غفت کرنا اختیار کرنا چور نا
 دره کامدن نیشتن برخواستن پرکردن پردازیدن بربان
 ها جزوها بیشنهای اینها پرها

سهودن ستن بپروردون کشتن نمودن ویدن فرمودن امدهن
 گنا دهونا پالنا هارڈانه بیانه ویکنها فرانه ڈالهین
 دریدن بریدن پوستن بستن کشادن خواندن نوشتن
 پهارنا کاتنا عناهانا بازهنا کوننا پڑهنا لکنا
 پریدن شکستن کشیدن چپیدن کندن رسجدن رسخایدن
 اڑنا توڑنا کینچنا لپٹنا کوزنا آزدهه بونا آزده کرنا
 آزدن سخایدن بافیدن روختن چیودن رسیدن رمحایدن
 آزده کرنا لکهنا یافتشکرنا بنتنا سیننا بپنهنا پنچانا
 چمیدن چمایدن رسشن الیدن افسرون خردن فروضن
 سمجنا سجانا جانتا هنا پھوڑنا خردنا سجنیا
 درزیدن پوشیدن گترن سختن حائیدن خاریدن بازیدن
 چرانا پنهان سچانا پکانا چبانا گچانا رسند
 درخیشدن تراشیدن سنجشیدن آرسیدن موقوف کردن بالیدن
 چکنا چیننا سخشنا آرام کرنا موقوف کرنا بڑهنا
 روییدن بوییدن اووردن خوشیدن حسیدن جوشیده چشیدن
 دگنا سونگنها لانه خشک بونا چکنا چوش کهنا چاکنها
 لیسیدن سفر کردن آغاز نمودن تمام کردن هر چندی را باید که هر کتاب
 چاتنا سفر کرنا شروع کرنا تمام کرنا
 که بخواند بخوبی باید کند تا خواندن گذاشت و یکبار او آسان شود و در خواندن و نویشتن

و آمودن صلم و بصر سرگرم ناند نا اوقات فرزش بجز حسن بگذرد بدائله طهم حالت
و مردان چون جسم اند پس جسم جوان مرده است بیت سیا صور جز علم کفر عاصی
که بی علم بودن بود عاصی و چه زیبا کفته اند علم و بصر حشره ایست را پیده و دوست
پایینده و اسلام

بسم اللہ الرحمن الرحيم
فَاعْدُهُ وَلِكُلِّ مُخْصَرٍ مُوْزُونٍ

بدائله هر یکی زبان بجهرف زدن ببسه طرق مخصوص و موقفت اسم فعل
حرف اسماء بخوبی اقسام منقسم است یعنی از آنها اسم خاص خپاچه اسم نام
ابراهیم یوسف خان مرتاض باقر نورخان وغیره اسم خام
اسپ خر کاو شیر وغیره و یکی اسم صفت خوب ویت
صف برابر اسم صنیر من تو او شما ایشان یا آنها
اسم اشاره نزدیک این اسم اشاره بعید ان او وغیره
اسم مستعمل کدام یا که چه اسم موصول اینکه جواب موصول
همان همین اسم صنیر شترک خود اسم میهم شخصی مردی زنی
برای اشیا بیج پارسی اسم فعل عویشه روشه کوییده
وغیره اسم مفعول کشته شده کفته شده پرده شده شمرده
اسم غالیه کشان گشان گشان پزان روایان روایان وغیره اسم
ظرف زمان حالاتی کجا اسم ظرف مکان اینجا اینجا دران یا کجا
دران بران اسم عدد یک دو چهار یکصد روایه هزار